

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن  
جامعہ ملیہ اسلامیہ

نئی دہلی  
11 جون 2020

## پہلی بار جامعہ ملیہ اسلامیہ ایم ایچ آر ڈی کی این آئی آر ایف - 2020 انڈیا رینکنگ میں 10 یونیورسٹیوں میں شامل

مستقل امتیازی حیثیت حاصل کرتے ہوئے ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے پہلی بار ایم ایچ آر ڈی کی قومی ادارہ جاتی رینکنگ فریم ورک (این آئی آر ایف) انڈیا رینکنگ رپورٹ -2020 میں ٹاپ ٹین یونیورسٹیوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہے ، یہ تفصیلات ایم ایچ آر ڈی منسٹر شری رمیش پوکھریال 'نشانک' نے آج جاری کی ہے۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ کو ملکی یونیورسٹیوں کے زمرے میں 10 واں مقام ملا ہے ، اس نے گزشتہ سال 12 سے اپنی پوزیشن بہتر کی ہے۔

'مجموعی زمرے' میں یونیورسٹی کو 16 ویں پوزیشن پر رکھا گیا ہے ، جو گزشتہ برس 19 ویں سے آگے ہے۔ مجموعی زمرہ جات میں دیگر اعلیٰ تکنیکی اداروں آئی آئی ٹیز ، آئی آئی ایم ایس ، آئی آئی ایس سی اور یونیورسٹیوں کو شامل کیا گیا ہے۔

رواں سال این آئی آر ایف میں مجموعی طور پر تقریباً 66 ہزار اداروں نے حصہ لیا ۔  
وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے یونیورسٹی کی کارکردگی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ، " یہ کامیابی انتہائی اہم ہے کیونکہ یونیورسٹی نے حال ہی میں کافی مشکلات کا سامنا کیا ہے اور درجہ بندی کے زمرے میں بھی نمایاں مقام حاصل کیا ۔"

انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کارنامہ جامعہ کے کارکنان ، اساتذہ اور طلباء کو جاتا ہے جو تعلیم و تعلم اور تحقیق و تدوین میں رات دن مصروف ہیں ۔

انہوں نے اس کامیابی کا سہرا جامعہ کے سبھی کارکنان اساتذہ ، طلباء ، تدریسی و غیر تدریسی عملہ کو دیتے ہوئے آئندہ سالوں میں بہتر کارکردگی کی امید کی۔

این آئی آر ایف -2020 کے ذریعہ یونیورسٹی کے لا فیکلٹی کو نویں پوزیشن ، فیکلٹی آف آرکیٹیکچر اینڈ ایکسٹریکٹس کو 10 ویں ، فیکلٹی آف ڈینٹسٹری کو 19 ویں ، فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹکنالوجی کو 28 ویں اور فیکلٹی آف مینجمنٹ کو 34 ویں پوزیشن حاصل ہوئی ہے۔

این آئی آر ایف کی درجہ بندی پیرامیٹرز کی بنیاد پر دی جاتی ہے جس میں تعلیم ، وسائل ، تحقیق اور پیشہ ورانہ مشقیں ، گریجویٹس کے نتائج ، اوٹ ریج اور شمولیت اور تاثر وغیرہ شامل ہیں۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے گزشتہ منگل کو جاری کی جانے والی کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ -2021 میں مسلسل تیسرے سال بھی اپنی پوزیشن برقرار رکھی۔ جامعہ ملیہ

اسلامیہ نے اپنی پوزیشن 751-800 پر برقرار رکھی جب کہ اس سال کیو ایس کی درجہ بندی کرنے والی یونیورسٹیوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا تھا ۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ کو ہندوستانی اداروں میں 15 ویں نمبر پر رکھا گیا ہے جس میں آئی آئی سیز اور آئی آئی ٹیز بھی شامل ہیں۔ کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ کے ذریعہ ملکی جامعات میں جامعہ ملیہ اسلامیہ چھٹے نمبر پر ہے۔

حال ہی میں ، جامعہ ملیہ اسلامیہ کی انجینئرنگ اینڈ ٹکنالوجی کو لندن میں قائم ٹائمز ہائیر ایجوکیشن سبجیکٹ رینکنگ 2020 میں نمایاں مقام ملا جس میں اس کی پوزیشن گزشتہ سال 601-800 سے بڑھا کر 401-500 کر دیا ، جو اس سال 200 کی چھلانگ ہے۔ یہ ملک کی تمام اعلیٰ تعلیمی اداروں میں 11

جبکہ یونیورسٹیوں میں یہ دوسرے نمبر پر ہے۔  
پہلی بار جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کمپیوٹر سائنس نے بھی موضوعاتی اعتبار سے بہترین اداروں کی  
فہرست میں جگہ بنالی اور سبجیکٹ رینکنگ 2020 میں فزیکل سائنس کی درجہ بندی میں بہتری دیکھی  
گئی۔

احمد عظیم  
پی ار او میڈیا کوآرڈینیٹر